

PRESS RELEASE

For immediate release

February 24, 2021

Chairman SECP Reaffirms Commitment to Facilitate Businesses

Islamabad February 24: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), as part of its efforts to promote ease of doing business through meaningful stakeholder engagement, held an interactive virtual session with representatives of Overseas Investors Chambers of Commerce & Industry (OICCI).

The session was chaired by the Chairman SECP, Aamir Khan, who briefed the participants about recent improvements in the regulatory ecosystem and highlighted some key changes, including introduction of digital certificate of incorporation, creation of special portal for banks to facilitate account opening, digitization of account opening process for resident and non-residents for investment in the capital market etc. These reforms have greatly improved efficiency of processes, which have been duly reflected in country's global rankings.

During the session, the Chairman apprised the OICCI's representatives about SECP's future endeavors in this regard to simplify regulatory requirements, reduce compliance cost and leverage technology to improve user experience. He reiterated SECP's commitment to improving business climate and resolving issues hindering overseas investment.

The SECP Chairman informed the participants that amendments in the Companies Act, 2017 have been laid before the Parliament. The amendments are in line with the Government's vision to promote ease of doing business, improve access to finance and aim to resolve various issues being faced by businesses, especially startups and smaller companies.

The OICCI's representatives, while appreciating SECP's efforts to facilitate the business community, also shared their ideas and recommendations to improve investor's confidence in Pakistani market, which will further boost foreign direct investment.

چیرمین ایس ای سی پی کا کاروباری آسانوں کی فراہمی کا تسلسل جاری رکھنے کا عزم

اسلام آباد (فروری 24): سیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی جانب سے کاروباری آسانوں کی فراہمی اور کاروباری نمائندہ تنظیموں کے ساتھ باہمی اعتماد کو فروغ دینے کے لئے اور سیز انویسٹرز چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری (او آئی سی سی آئی) کے نمائندوں کے ساتھ ورچوئل اجلاس منعقد ہوا۔

اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے، چیئرمین ایس ای سی پی عامر خان نے شرکاء کو ریگولیٹری نظام کو بہتر بنانے ملک میں کاروباری ماحول میں بہتری اور آسانوں کی فراہمی کے لئے کی جانے والی حالیہ اصلاحات کے بارے میں بریفنگ دی۔ حال ہی میں کی جانے والی نمایاں اصلاحات میں ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کے اجراء، بینکوں میں کمپنیوں کے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے خصوصی پورٹل کا قیام اور کیپٹل مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے لئے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے آن لائن اکاؤنٹ کھولنے جیسے اقدامات شامل ہیں۔ ان اصلاحات نے پاکستان کی کاروباری آسانوں کی درجہ بندی میں بہتری میں اہم کردار ادا کیا۔

چیئرمین ایس ای سی پی نے او آئی سی سی کے نمائندوں کو ایس ای سی پی کی جانب سے انضباطی (ریگولیٹری) تقاضوں کو آسان بنانے، کمپلائنس لاگت میں کمی اور صارف کے تجربے کو بہتر بنانے کے لئے ٹیکنالوجی کے فروغ کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کاروباری ماحول کو بہتر بنانے اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹیں حل کرنے کے لئے ایس ای سی پی کے عزم کا اعادہ کیا۔

چیئرمین ایس ای سی پی نے شرکاء کو آگاہ کیا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 میں کی جانے والی ترامیم کو پارلیمنٹ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ ان ترامیم کا مقصد حکومت کی طرف سے کاروبار میں آسانی کو فروغ دینا، مالی اعانت تک رسائی کو بہتر بنانا اور کاروباری اداروں خصوصاً اسٹارٹ اپس اور چھوٹی کمپنیوں کو درپیش مسائل کو حل کرنا ہے۔ او آئی سی سی کے نمائندوں نے کاروباری برادری کی آسانی کے لئے ایس ای سی پی کی کاوشوں کو سراہا اور پاکستانی مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بہتر بنانے کے لئے اپنی سفارشات پیش کیں۔